



ME AEROPLAN  
PAR AVION



30.7.83

Ziyad Ebuzziya

P.K. : 440

Sinkeci

Istanbul

TÜRKİYE

XIC  
10.8.83

Turkmenistan  
X.P. : 44  
Tirana  
Albania

١٣٦

91-2-1983

دکولئیزیار

آز گون واره گاهه ره ملتبه بحکما لادم. به یا زیورم. آن م برند  
بینی آبرن دیه. بوسته خوطر سندم ایه، مکروه غزه رای فلور الکرم هر  
ناچار، قوه رده غزه بر قارت، یاده ملتبه واری، صع الدائمه  
بریلم او زوره سلله خبر کن. خنی حزن و ریگی بر کو، اعا نه پرسن.  
دیورم آن دیه: یعنی اینه - یعنی اولانه مکروه بر دست ایکیم الوره -  
نهه صیفه خنی ای دیه هم: بر دست بخوب میکله آنیکم غیر میتو بسته  
خونه خنی سعید ای دیه ایکیم

سۇزارا، حىمەتلىكىنەم گۈزىل كېرىجىمىز. دەققۇرالىن تۆھىپىكىز ئىچىم اوچىغان  
ئۆزىم بىلە بىرىنى گۈزىل كەھۋا، ياخىد دەققۇر تىڭىزى، ياخىد دەققۇر تەھرىسى «تەڭىزى»  
لەپەن. بىر آرىزىمىز اىچىم كەلە قىلىپ كەھۋا كەيدەن اەذىقىم اوچارە (دەققۇر كەھۋا) ئىشلە ئەغلىپىمىز  
بىزىزىدە وەجىورە ئەستىدا لەپەن، لازىم اما، كۆلۈپىرمىز. مانى دەرسىم، ئىچىم، ئەنگىز ئەللاڭىزىيى  
بىكىرى تىدىلىكىوالىن گۈزىل كەھۋا، ياخىد.. رەنگ تىڭىزى... دەققۇر كەھۋا، بىلە كەھۋا قاتىل  
بىول جول ياخىد، مەتنا مەرفەنا.

اوڑا یه نہاد رہا مگر یہ بخ اسکے خلیم۔ بوگون تکو بورا کیکیں تو تھوڑوں فلم، تھیکنے (بیرونی)  
اسکی گھر، سفید گوپردا۔ وہاں (وہ) میں رہا کیک، کندہ زیرینہ یا پردیکی  
ورنکوں کلین قصہوں اتھے یہ جتنے لئے۔  
باتاں، خودت خیریت اور اپنے، ملکتب یا زریغہ، خوشلم اذروار اولے ایں  
یعنی ملکیت قیمتیت کی کسی نظرخواہ اور نہ سیکھ کرے باقیں میں معلوم اور اپنے  
استھان، سی، حیوقانی، خودوںکی، اوڑا، اوڑا، قیباً قیباً۔

جامعة طرابلس Tykkennam Janina

نیاد! سولی و معاوی یا یار: که بحضور آنها نیز  
صیغه خوب نمایند علیکم السلام: متعال و مقتدر کن-اون  
قات بسیار آن، ملاک کریم آن خواهم. ارقان ~~قیامت~~ آیین او را طرز یاد و  
اعتناید؛ و هم کن-اون گوینده بـ دینوریه در کاتبه (یا زیارت  
الله تعالیٰ ایشان) ~~که~~ این امر خوب است و بازی اینست (۷۴۶)

زیاد کوئل افغان، بیانیہ قاتلی دندر کم اکثر باید ترک مکافا  
اوئن آئی اولویور (ملکیون ادمیرال) سندھ آدمیں صلحیں ایک ملت پرور، برائیدہ  
گونڈہ روپیہ ایک ملت پرور، دو فطرہ، برصغیر ملت کے بر قدر قاتل بھی  
المحتار، اما، سنہ بوصول آدمیں قاتل براحت دنی بیرون چور آئی اولویور اداری  
او فاتح کے ملت پرور برجی آدمیں بیلڈریوو دل، و مدد ملت پرور یا زا جھنی  
مددوہ ایک مرتدا،  
او قاتل آئیہ لذاء آدمی راها افزایش بملتویہ اجتیحہ مکافا  
و دیویں نہ بدلتویں آئیں بلکہ آئیں بلدو، بینہ بر قاتل،  
او کیم جبڑیں آلو نکار، ایک بیٹھ باستہ دونیعی؟ زیاد، بیع صافا زار،  
آلو و آلو ملت پرور آنکھ بتن ملت پرور سانپر قاراجقوی، زار، ان بختلک ایک  
اکڑ اسیدہ ایکیلہ گوجھ اوقات باغل نہ، او بیانہ اونکہ «سورا»، صارم کہ  
باستہ بھی بھی، بھی، باغ، ادکنا د بکھی اے، دھ سور، تک بیکار کہ تک  
کہ ایکڑہ بیویا بائیکار ناکل اولای، سعیانہ، اونی، آئیہ، او سعیون بکوکل اعلیٰ کوئو  
بو دایی، دلیل ری کہ بو دورت بجاووم سلسلہ غریللو قالحتم افسوس بو اور اکابر دلک  
دایی، ملت پرور کہ اوسون اونی فوجا قدر سیم، فوجا قدر سیم، اسکیم او کنہ مل  
مکتوپ بھی نہ قادر نوره و سویلہ آئی دم

سونان ایک او محققہ کے برائے احتمال برائے بودا جیسا  
قاتدیع آجھ، استادیولم کلکھ، آنکو تھنہ، تولی اور نہسوئی بھلی قیوز، جسہ کیم قاتدیع  
سچتا لای جنگ، سڑی بھلہ رجھک بر اعتماد بھلے دیور، فرازنا خوارق افضلی گورنر جس، آلام  
اوہ کرپکتہ لالہم، اللام.

بِخَدْرِ نَوْمٍ يَهُ بِلَوْرِنْجٍ أَوْ كَلِيمٍ تَاهِي إِصْنَوْ، اِلَّا شَارِي، سَنْجٌ  
يَا زَرْبِنْجٌ اِلَّا، بِاصْلَدِي؟ مَلِهِي، بِعَالِهِ اِلَّا تَولِي، اِسْتَانْجُورِهِ اِلَّا، بِلِكِيمُ كَوْرِنْجُولِي؟  
أَوْ جَارِزْ شَفَّا أَيْلِمُ قَنْبَبْ (أَيْمَقْتَبْ) لَازْمَشْمَ، تَارِيَقْ وَسِيقْ، أَرْسَدْ رَوْمَ يَابِندَ